

LEAD CARBONATE	لیڈ کاربونیٹ	ICSC: 0999
CAS # 598-63-0 RTECS # OF9275000 UN # EC # 082-001-00-6 EINECS# 209-943-2 UN Hazard class:	دیگر نام : Carbonic acid, lead(2+) salt Lead(2+) carbonate Cerussite فارمولہ : PbCO ₃ سامانی وزن : 267.2	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ	بچاؤ	خطے کی قسم
آگ کے قرب و جوار میں پھینے کی صورت میں استعمال کریں۔ پاڈر، پانی کا سپرے، فوم، کاربن ڈائی آسائیڈ	نہ بلنے والا مادہ بلنے پر سوچ پیدا کرنے والے یا زبریلے بھارت (یا گیمیں) غارج ہوتے ہیں۔	آگ :
		دھاکہ :
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	لوکل ایگزاسٹ یا آلات تنفس استعمال کریں	جسم میں داخلہ :
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	لوکل ایگزاسٹ یا آلات تنفس استعمال کریں	سانس کے راستے :
خراش شدہ کپڑے تار میں پانی ہماییں پھر جلد کو پانی اور صابن سے دھوئیں	حفاظتی دستائے استعمال کریں	جلد کے راستے :
پہلے کئی منٹ تک پانی سے ابھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں	حفاظتی پیشے استعمال کریں	امکھوں میں پڑنا :
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں پینے کے لیے وافر پانی میں پانی میں Activated charcoal گھوول کر پلائیں ۔	کام کے دوران خود دنوش اور سگست نوشی مت کریں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں	نگلنے کی صورت میں :
پیک کرنا اور لیلیں لگانا:	بچھنے کی صورت میں اقدامات :	
خوارک یا جانوروں کی فیڈ کے ساتھ بار برداری نہ کریں نوٹس (A,E) دیکھیں	گرے ہوئے مادے کو برتوں میں اکھنا کریں ضرورت ہو تو پہلے گیلا کر لیں تاکہ گرد نہ اٹھے اعطا کے ساتھ بقیہ مادے کو اکٹھا کریں پھر اس کو محفوظ جگہ پر لے جائیں ۔ اس کیمیکل کو احوال میں داخل نہ ہونے دیں (غیر معمولی ذاتی تحفظ، ذریلہ ذرات کے لئے P3 فلٹر والے ماسک کی ضرورت) ۔	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات :	
ناموافق مادوں خوارک اور فیڈ وغیرہ سے عیتمدہ رکھیں کیمیائی خطرات میں دیکھیں	Transport Emergency Card: TEC (R)-[61G64c]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

LEAD CARBONATE	لیڈ کاربونیٹ	ICSC: 0999
اہم معلومات		
<p>بسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ بسم میں سانس کے ذریعے لگنے پر بذب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 سننی گرید پر تجیر برائے نام ہے لیکن بکھیرنے پر خصوصاً پاؤڈر کی شکل میں ہوا میں ذرات کی مقدار نظر انداز کو چھو سکتی ہے مختصر مدت کے لیے جنم میں داغنے کے اثرات: طویل مدت کے لیے: یہ مادہ خون بیویوں کے گودے مرکزی اعصا بی نظام اور Peripheral اعصا بی نظام اور گردوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے ہوا بینیا (خون کی گردوں کی خرابی پر تجیر ہو سکتا ہے hemolysis encephalopathy) اور . حصی نظام کی خرابی اس کی وجہ سے انسانوں میں قوت تولید پر زبردیہ اثرات ہوتے ہیں۔</p>	<p>طبعی حالات: ہر رنگ قلمیں طبعی خواص: کمیائی خطرات: یہ مادہ 315°C سے اوپر گرم کرنے پر تحلیل ہو جاتا ہے زبردیہ بھارت بھارت کے ساتھ مدت کے ساتھ عل کرتا ہے جس سے آگ کا خط پیدا ہوتا ہے ہوا میں مقررہ حدود: (TLV (as [Pb]): [0.05] mg/m³ [A3] (ACGIH 2000 (MAK: [] [0.1] mg/m³; [as Pb] (2000</p>	<p>طبعی خواص</p> <p> نقطہ پگھلاو: [315] سننی گرید کثافت اضافی (المقابل پانی = 1): 6.6 cm³ پانی میں عل پنیری (گرام فی 100 مل لٹر): 0.0001</p>
<p>ماخوذیات اعدا و شمار</p> <p>خوارک کے سلسلے میں انسانوں کے لئے اہم ہے کہ کسی کوئی میں اس کا ذخیرہ ہو سکتا ہے غاص طور پر گردوں اور مالیہ جانوروں میں اس کا تجھی سے خیال رکھیں کہ یہ مادہ ماقول میں داغ نہ ہو [کیونکہ یہ ماقول میں لمبے عرصے تک موجود ہتا ہے .</p>	<p>ماخوذیات اعدا و شمار</p>	<p>ماخوذیات اعدا و شمار</p>
<p>Notes (Notes)</p> <p>ماخوذیات مطابق و قفوں پر طبی معافیہ کیا جائے کام کے کچھے گھرمت لے جائیں</p> <p>مزید معلومات:</p>	<p>ماخوذیات مطابق و قفوں پر طبی معافیہ کیا جائے کام کے کچھے گھرمت لے جائیں</p> <p>مزید معلومات:</p>	<p>ماخوذیات مطابق و قفوں پر طبی معافیہ کیا جائے کام کے کچھے گھرمت لے جائیں</p> <p>مزید معلومات:</p>
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety		Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999